lote:- You ha	وگا۔انگ ریجوور یا سفید ve four choices	The coloniective	type question as	ه دارُوں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پار کے اس کے مطابق دار ہے پُر کزیں ، s A, B, C and D. The cho	ے جروبے۔ ایک بے زیادہ  PAPER CODE  pice which you think is co
will result in	e in front of that of zero mark in that	t question number. t question. Write	PAPER CODE,	pen to fill the circles. Cutting which is printed on this perwise the student will be	ng or filling two or more cit question paper, on the
	remover or white			QUES'	CULL
ریزی ایش	كويكش	كذكش	الكيولز كالكراؤ		میسز میں زیادہ تر انقال حرارت کا -
Radiation	Convection	Conduction	Molecular	In gases, Heat is maini	y transfered by
9	7	6	- 3	The number $\leftarrow$	s ۱ میں بنیادی پوٹٹس کی تعداد
	Ý			of base units in	
5 m s <sup>-1</sup>	10 m s <sup>-2</sup>	Žero	- 10 m s <sup>-1</sup>	یا ہے۔ بندرین مقام پرائی ی  A ball is thrown vertice	ایک گیند کوعمودا او پر کی طرف پھینکا گر سپیڈ ہوگی ally upward its
وائبر یثری	ريذم	رونيز ي	8,	velocity at the height	est point is اینے ایکس کے گردجم کی موش کہلاتی
Viberalory	Random	Rotatory	Circular	The motion arround its	
N s <sup>-1</sup>	Ns/	Kgms <sup>-2</sup>	Nm	Unit of Momentum is	MEIO
Surface ¿ Č	ولائل پر Velocity 0.707	Mass Jul	Force just	Inertia depends upon	انزشیا کا انحمار ہے کا Sin 45°
عَنْرُ أَصِرِ كِن إِنْ	LS fülle	A FRANCE		ان ک	رينگ کاري متوازن بنائي جاتي ٻين ا
owering $\angle \mathcal{S}$ heir centre of	Decreasing	hacreasing	Decreasing their masses	Racing cars are made	stable by
gravity $6 \times 10^{24} \text{ N}$	their width $6 \times 10^{24} \text{Kg}$	their speed 6 × 10 <sup>14</sup> Kg	6 × 10 <sup>4</sup> Kg	The mass of Earth is e	equal to زین کا ای برابر ہے
الكِنْزك بيل	مر ذوريل	الكِثرك جزيز	الْكِثْرُك لِمِبِ		ویوائس لائیٹ از جی کو الیکٹریکل از ج ight Engravinto
Electric cell	Photo cell	Electric generator	Electric bulb	The device converts L Electrical energy	Section Name
10 <sup>3</sup> N m <sup>-2</sup>	10 <sup>2</sup> N m <sup>-2</sup>	1 N m -2	10 <sup>4</sup> N m <sup>-2</sup>	One Pascal is equal to	
98.6 °C	37 °F	15 °C	37 °C	Normal numan body t	نارل انیانی جم کا نمپریگر ہے temperature is
	سکنڈری پار 63کل نمبر Part any Five parts	2) نيو کورس) [	012-14 to 2014 لاگروپ) (	ر د د د د د د د د د د د د د د د د د د د	(افائة) (نونكيم 1100) 2.45 گھنا معام
	by International			ا المال	الم المنظمة ال
	importance of sci		- 711111	111100	ورس میں مقدار دن کو سائلیلیک نومیش از کس میں مقدار دن کو سائلیلیک نومیش
efine accelerate fine speed ar	tion. Write its un	its.			ایکسٹریشن کی تعرفیف سیجئے اور اس کے سپیڈ کی تعریب سیجئے اور اس کا فار مولا
enne vector qu	antitics,	100			ويكثر مقدارون كى تعريف سيجيئ
rove that F = r escribe two sit	na uations in which	force of friction	is needed.	کشن کی ضرورت ہوتی ہے	ا ابت کریں کہ F = ma دوالی صور تیں بیان کریں جن میں فر
tate the Newto	n's First law of r	notion.			نیوٹن کا موشٰ کا پہلا قانون بیان کیجئے
Answer brieflefine Rigid boo	y any Six parts	s from the follo	wings:- 6x2	ے مختم جوابات قریر کریں۔       12=	ورج زيل ين ع كول ع جه اجزا
anno riigia boi	1)				15 426 (11)
ifferentiate bet	ween Torque &	Couple.		-012	رجد بازی کی آخریف سیجے نارک اور کیل میں فرق واضح سیجے۔
n what factors	the orbital spee	d of a satellite of	lepends?		ٹارک اور کیل ٹین فرق واضح کیجئے۔ کی سیلائٹ کی زمین کے گروگروٹن کو
n what factors efine gravitation		d of a satellite of	<b>KIO</b> T	· E.	ٹارک اور کیل میں قرق واضح سیجے۔ محس سیلائٹ کی زمین کے گرد گردش کو محر یوی کیشنل فیلڈ کی طاقت کی تعریف
n what factors efine gravitation  that is meant to  ow can you fin	the orbital spee onal field strengt by power? Write d the efficiency	d of a satellite of h. down it S.I. unit	<b>KIO</b> T	ر بجنية . ان كانتي	نارک اور کیل میں فرق واقع کیجے۔ کی سیلائٹ کی ذمین کے گرد گردش کی گر ہوئی فیشیل فیلڈ کی طاقت کی تعریف پادرے کیا مراد ہے؟ اس کا .3.1 یو کسسٹم کی ایفی فیلسی آپ کیے معلو
n what factors efine gravitation that is meant to ow can you fin	the orbital spee onal field strengt by power? Write d the efficiency cal energy.	d of a satellite of h. down it S.I. unit of a system?		ر تیج ر ن کھئے۔ م کر بحتے ہیں؟	نارک اور کیل میں قرق واضح کیجے۔  میں سیلائٹ کی زمین کے گروگروش کو  روی فیشنل فیلڈ کی طاقت کی تعریف  پادرے کیا مرادے ؟ اس کا .5.1 یو  میسنم کی اینی فیلسی آپ کیے مطلق میسنک از تی کی تعریف کیجے۔  میسنک از تی کی تعریف کیجے۔
n what factors efine gravitation that is meant to ow can you fin efine mechanic thy fossil fuels then a body is	the orbital spee onal field strengt by power? Write d the efficiency cal energy. are called non-re said to be in eq	d of a satellite of h. down it S.I. unit of a system?	of energy?	۔ بیجے۔ نٹ کھنے۔ ہم کر بختے ہیں؟ ل کیوں کہا جاتا ہے؟ ہے؟	نارک اور کیل میں قرق واضح کیجے۔ کی سیلائٹ کی زمین کے گرد گردش کو گر ہوئی فیشیل فیلڈ کی طاقت کی تعریف پادر سے کیا مراد ہے؟ اس کا .3.1 کا پور سے معلو مکینیکل از ٹی کی تعریف سیجے۔ نوسل فیلز کو از ٹی کی تعریف سیجے۔ نوسل فیلز کو از ٹی کی نا قابل تجدید شکا
n what factors efine gravitation that is meant to ow can you fin efine mechanic thy fossil fuels then a body is	the orbital spee anal field strengt by power? Write d the efficiency cal energy.  are called non-resaid to be in equifiy any Five parts.	d of a satellite of h. down it S.I. unit of a system?	of energy?	کی بیجے۔ بن کیمے۔ ہم کر بحتے ہیں؟ کی کیوں کہا جاتا ہے؟ ہے؟ سے مختفر جوابات تحریر کریں۔ 2=10	ارک اور کیل میں قرق واضح کیجے۔ کی سیلائٹ کی ذیمن کے گروگروش کو گروش کے الفات کی آخریف ار یوی بیشنیل فیلڈ کی طاقت کی آخریف پادر سے کیا مراد ہے؟ اس کا 8.1. کا پور مکیسٹم کی ایفی قیلسی آپ کیے مطلق مکیسٹم کی ایکی تحریف کیجئے۔ مارک جو کی ایکی کی تا قابل تجدید شکا
n what factors efine gravitation that is meant to ow can you fin efine mechanic thy fossil fuels then a body is Answer brie efine stress an	the orbital spee anal field strengt by power? Write d the efficiency cal energy.  are called non-resaid to be in equifiy any Five parts.	d of a satellite of a system? The enewable form willibrium?	of energy?	ب نیجے۔ بن کھے۔ ام کرعتے ہیں؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہے؟ می منظر جوابات فریر کریں۔ 2=10	ارک اور کیل میں قرآن واضح کیجے۔  کی سیلائٹ کی دیمن کے گروگروش کو بیٹے  ریوی پیشنل فیلڈ کی طاقت کی تعریف  پاور سے کیا مراد ہے؟ اس کا 3.1 کی بی معلم کی اپنی شیلی آپ کیے معلم مکی اپنی شیلی آپ کیے معلم فوتا۔  وسل فیوکو از تی کی تعریف کیجے۔  وسل فیوکو از تی کی تعریف کیجے۔  از میں اور سر ان کی کو تو بیف کیجے۔  سر میں اور سر ان کی کو تو بیف کیجے۔  سر میں اور سر ان کی کو تو بیف کیجے۔  سر میں اور سر ان کی کو تو بیف کیجے۔  سر میں اور سر ان کی کو تو بیف کیجے۔  سر میں اور سر ان کی تعریف کیجے۔  سر میں اور سر ان کی تعریف کیجے۔  سر میں اور سر ان کی تعریف کیچے۔
n what factors efine gravitation that is meant to ow can you fin efine mechanic thy fossil fuels then a body is Answer brie efine stress an efine Hooke's	the orbital spee and field strengt by power? Write d the efficiency cal energy.  are called non-resaid to be in equilibrium. The production of the efficiency called non-resaid to be in equilibrium. The production of the efficiency called non-resaid to be in equilibrium.	d of a satellite of h. down it S.I. unit of a system? The enewable form uilibrium? The arts from the form the f	of energy?	ب نیجے۔ بن کھے۔ بم کر مجے ہیں؟ پی کیوں کہا جاتا ہے؟ پی کیفر جوابات تحریر کریں۔ 2=10	ارک اور کیل میں فرق واضح کیجے۔  ار یوی لیشنل فیلڈ کی طاقت کی تعریف  ار یوی لیشنل فیلڈ کی طاقت کی تعریف  ادرے کیا مرادے ؟ اس کا گا یو کی معلم  ادرے کیا مرادے ؟ اس کا گا یو کی تعریف کیجے۔  اسلم کی افغی فیلسی آپ کیے معلم  ان سلم کی افغی فیلسی آپ کیے معلم  ان سلم کی افغی فیلسی آپ کیے معلم  ان سلم کی ازی کی تعریف کیجے۔  ان سلم کی ازی کی تعریف کیجے۔  ان سلم کی اور سرک کی تا قابل تجدید گا
n what factors efine gravitation that is meant to ow can you fine efine mechanic thy fossil fuels then a body is Answer brie efine stress and efine Hooke's efine Fahrenhe efine specific l	the orbital spee and field strength by power? Write d the efficiency cal energy.  are called non-resaid to be in equilibrium.	d of a satellite of a system?  renewable form uilibrium?  arts from the form the for	of energy?	ن کیوں کہا جاتا ہے؟  الم کیوں کیا گھیا۔  الم کاروائی کا 5.1 کیونٹ کلھیں۔	ارک اور کیل میں قرآن واضح کیجے۔  کی سیلائٹ کی دیمن کے گروگروش کو بیٹے  ریوی پیشنل فیلڈ کی طاقت کی تعریف  پاور سے کیا مراد ہے؟ اس کا 3.1 کی بی معلم کی اپنی شیلی آپ کیے معلم مکی اپنی شیلی آپ کیے معلم فوتا۔  وسل فیوکو از تی کی تعریف کیجے۔  وسل فیوکو از تی کی تعریف کیجے۔  از میں اور سر ان کی کو تو بیف کیجے۔  سر میں اور سر ان کی کو تو بیف کیجے۔  سر میں اور سر ان کی کو تو بیف کیجے۔  سر میں اور سر ان کی کو تو بیف کیجے۔  سر میں اور سر ان کی کو تو بیف کیجے۔  سر میں اور سر ان کی تعریف کیجے۔  سر میں اور سر ان کی تعریف کیجے۔  سر میں اور سر ان کی تعریف کیچے۔
n what factors efine gravitation that is meant to ow can you fin efine mechanic thy fossil fuels then a body is Answer briefine stress an efine Hooke's efine Fahrenhe efine specific to ive two uses of efine consequence	the orbital spee and field strengt by power? Write d the efficiency cal energy.  are called non-resaid to be in equify any Five point strain.  Law and write it ent scale and Kenter capacity and the effect capacity are cooling effect the set of thermal Expansion.	d of a satellite of a system?  The down it S.I. unit of a system?	of energy?  collowings:- 5x  example.	الم يحتر المحتر	الرک اور کیل میں قرق واقع کیا۔  کو سیلائٹ کی ذمین کے گرد گردش کو ایس کا مراد ہے؟ اس کا ۱۰ کا یو کا مراد ہے کیا مراد ہے؟ اس کا ۱۰ کا یو کا مراد ہی کا تا تا کی تعریف کیا ہے معلق اور کیا ہی تا ہا کی تعریف کیا ہے اور اکا مراد کیا ہی تا ہوتا ہے کہا ہے کا تو اور اکا مراد کیا ہی تا ہوتا ہے کا اور اکا مراد کیا ہی تا ہوتا ہے کا اور اکا مراد کیا ہی تا ہوتا ہے کا اور اکا کی تا ہوتا ہے کا اور اکا کی تا ہوتا ہے کا اور اکا کی تا ہوتا ہوتا ہے کا اور اکا کی تا ہوتا ہے کا اور اکا کی تا ہوتا ہے کا اور اکا کی تا ہوتا ہوتا ہے کا اور ات کی تعریف کر کے کا اور ات کی تعریف کر کے کا اور ات کی تعریف کی تعریف کے کا اور ات کی تعریف کے کی تعریف کی تعر
n what factors efine gravitation that is meant to ow can you fin efine mechanic then a body is Answer brie efine stress an efine Hooke's efine Fahrenhe efine specific to ive two uses of efine consequence efine thermal of	the orbital spee and field strength by power? Write do the efficiency cal energy.  are called non-resaid to be in equally any Five part of strain.  Law and write it exit scale and Kendert capacity and fooling effect the softhermal Experience of thermal Experience of the strain.	d of a satellite of h. down it S.I. unit of a system?  renewable form uilibrium?  arts from the form the seguation.  Ivin scale to by evaporation.  Insion and write it is write its equation.	of energy?  ollowings:- 5x  init.  example.  on.	ی کیوں کہا جاتا ہے؟  ام کر بحتے ہیں؟  ام کر بحتے ہیں؟  ام کر بحتے ہیں؟  ام کر بحتے ہیں؟  ام کر بحتے ہیں۔  ام کر بات کوری کریں۔ 2=2  ام کریے کی بیاد است کوری کریں۔  ام کریے کی بیاد است کا بھیں۔  ام کریے کا دور مثال بھی کا بھیں۔  ام کی مساوات کا بھیں۔  ان کی مساوات کا بھیں۔  ان کی مساوات کا بھیں۔	ارک اور کیل میں قرق واضح کیا ۔  کو سیلائٹ کی ذمین کے گرد گردش کو ایس کا مراد ہے؟ اس کا ۱۰ کا یو معلم کی این قبیلی آپ کیے معلم میں این قبیلی آپ کیے معلم میں این گریف کیے ۔  مکینے کیل از تی کی تعریف کیجئے ۔  وُسل فیلز کو از جی کی نا قابل تجدید شکا میں ہوتا ۔  از س فیلز کو از جی کی نا قابل تجدید شکا میں ہوتا ۔  از س فیلز کو از جی کی نا قابل تجدید شکا میں ہوتا ۔  از س فیلز کو از جی کی تعریف کیجئے ۔  از س فیلز کو از جی کی تعریف کیجئے اور اکر میں ہوتا ۔  از س فیلز کو از جی کی تعریف کیجئے اور اکر کی تعریف کیے کے اور اکر کی تعریف کیے کے اور اکر کی تعریف کیے کے اور اکر کی تعریف کر کے کارات شکے ہے کہ اور اگر کی تعریف کر کے کارات شکلے ہے کہ اور اگر کی تعریف کر کے کارات شکلے ہے کہ اور اگر کی کارات شکلے ہے کہ کارات شکلے ہے کارات شکلے ہے کہ کیل کارات شکلے ہے کہ کارات شکلے ہے کہ کیل کارات شکلے ہے کہ کیل کارات شکلے ہے کہ کیل کارات شکلے ہے کہ کو کر کے کہ کارات شکلے ہے کہ کارات شکلے کیل کارات شکلے کیل کیل کارات شکلے کے کارات شکلے کیل کیل کارات شکلے کیل کارات شکلے کیل کارات شکلے کیل کارات شکل کیل کارات شکل کیل کارات کیل کیل کیل کارات کیل کیل کارات شکل کیل کارات کیل کیل کارات کیل کیل کارات کیل کیل کارات کیل کیل کے کار کیل کیل کیل کارات کیل کیل کیل کارات کیل کیل کارات کیل کیل کارات کیل کارات کیل کیل کیل کیل کارات کیل کارات کیل کیل کارات کیل کیل کیل کیل کیل کارات کیل کیل کیل کیل کیل کیل کیل کیل کارات کیل کیل کیل کیل
n what factors efine gravitation that is meant to ow can you fin efine mechanic then a body is Answer brie efine stress an efine Hooke's efine Fahrenhe efine specific to ive two uses of efine consequence efine thermal of	the orbital spee and field strengt by power? Write d the efficiency cal energy.  are called non-resaid to be in equify any Five point strain.  Law and write it ent scale and Kenter capacity and the effect capacity are cooling effect the set of thermal Expansion.	d of a satellite of h. down it S.I. unit of a system?  renewable form uilibrium?  arts from the form the seguation.  Ivin scale to by evaporation.  Insion and write it is write its equation.	of energy?  collowings:- 5x  init.  example.  on.  ors.	ی کیوں کہا جاتا ہے؟  ام کر بحتے ہیں؟  ام کر بحتے ہیں؟  ام کر بحتے ہیں؟  ام کر بحتے ہیں؟  ام کر بحتے ہیں۔  ام کر بات کوری کریں۔ 2=2  ام کریے کی بیاد است کوری کریں۔  ام کریے کی بیاد است کا بھیں۔  ام کریے کا دور مثال بھی کا بھیں۔  ام کی مساوات کا بھیں۔  ان کی مساوات کا بھیں۔  ان کی مساوات کا بھیں۔	ارک اور کیل میں قرق واضح کیجے۔  ار یوی لیشنل فیلڈ کی طاقت کی تعریف  ار یسلم کی ایفی فیلسی آپ کیے معلم  ار سلم کی ایفی فیلسی آپ کیے معلم  ار سلم کی ار ی کی تعریف کیجے۔  ار ار ی کی تا وار ار ی کی نا قابل تجدید شکا  ار ار ی کی تعریف کیجے۔  ار ار ی کی تا کوئی کی تعریف کیجے اور اکم  ادر ان ہائیک سکیل اور کیلون سکیل کی تعریف کیجے  ادر ان ہائیک سکیل اور کیلون سکیل کی تعریف کیجے  ادر ان ہائیک سکیل اور کیلون سکیل کی تعریف کر ہے  ادر ان ہائیک سکیل اور کیلون سکیل کی تعریف کر ہے  ادر ان ہیمیلاؤ کے افرات کی تعریف کر ہے  ادر ان ہیمیلاؤ کے افرات کی تعریف کر ہے  ادر ان ہیمیلاؤ کے افرات کی تعریف کر ہے  ادر ان ہیمیلاؤ کے افرات کی تعریف کر ہے  ادر ان ہیمیلاؤ کے افرات کی تعریف کر ہی اور ان کی تعریف کر ہے  ادر ان ہیمیلاؤ کے افرات کی تعریف کر ہی اور ان کی تعریف کر ہی اور ان کی تعریف کر ہی اور ان کی تعریف کر ہیں اور ان کی تعریف کر ہی اور ان کی تعریف کر ہیں اور ان کی تعریف کر ہی تعریف کر ہی اور ان کی تعریف کر ہی کر ان کی تعریف کر ہی اور ان کی تعریف کر ہی تعریف کر ہو تعریف کر ہی تعریف کر
n what factors efine gravitation that is meant to ow can you fin efine mechanic thy fossil fuels then a body is  Answer briefine stress and efine Hooke's efine Fahrenhe efine specific to ive two uses of efine consequence efine thermal of thite two uses	the orbital spee and field strengt by power? Write d the efficiency cal energy.  are called non-resaid to be in equify any Five point strain.  Law and write it exit scale and Kendert capacity and fooling effect the of thermal Experience of thermal Experience of conductivity and of conductivity and of conductors are	d of a satellite of a system?  renewable form uilibrium?  arts from the form the for	of energy?  ollowings:- 5x  anit.  example.  on.  ors.	الم المحتاجة المحتاج	الرک اور کیل میں فرق واقع کیے۔  الر یوی فیشنل فیلڈ کی طاقت کی تعریف  ار یوی فیشنل ار ٹی کی تعریف سیجے۔  ار یک فیلڈ کو از ٹی کی تعریف سیجے اور الا  ار یک فیلڈ کو از ٹی کی تعریف سیجے اور الا  ار یک فیلڈ کو از ٹی کی تعریف سیجے اور الا  ار یک کے قانون کی تعریف سیجے اور الا  ار یک فیلڈ کی تا قابل تحدید کی الاول کے اور الا  ار ار تی تیمیل اور کیلون سکیل کی تعریف کی تعریف کر ہے  ار ار تی تیمیل اور کیلون سکیل کی تعریف کر ہے  ار ار تی تیمیل اور کیلون سکیل کی تعریف کر ہے  ار ار تی تیمیل کی تعریف کی تعریف کر ہے  ار ار تی تیمیل کی تعریف کر ہی اور الا  ار ار تی تیمیل کی تعریف کر ہی اور الا  ار ار تی تیمیل کی تعریف کر ہی اور الا  ار ار تی تیمیل کی تعریف کر ہی اور الا  ار ار تی تیمیل کی تعریف کر ہی اور الا  ار ار تی تیمیل کی تعریف کر ہی اور الا  ار سی موروب سیور کی تو تیمیل کی تعریف کر ہی اور الا
n what factors efine gravitation that is meant to ow can you fine efine mechanic thy fossil fuels then a body is Answer briefine stress and efine Hooke's efine Fahrenhe efine specific to ive two uses of efine consequence efine thermal of the two uses of	the orbital spee and field strength by power? Write of the efficiency cal energy.  are called non-resaid to be in equally any Five part of strain.  Law and write it exit scale and Kendert capacity of cooling effect the set of thermal Expension of conductivity and of conductors are	down it S.I. unit of a system? renewable form uilibrium? arts from the form by evaporation. ansion and write it is write its equation and Non-conduct and Non-conduct and Non-conduct and Non-conduct and Non-conduct and Non-conduct	of energy?  collowings:- 5x  collowings:- 5x  con.  cors.  cors.  7x3=21	الم يجيد المحتاج الما المحتاج المحتاب	الرک اور کیل میں قرن واقع کے استان کا دیل کے استان کے دیران کی دارون کا کوری کے استان کی دارون کا کوری کے استان کی اور کیف کے استان کا ایسان کا دارو کی کا استان کی اور کے کا استان کا دارو کا
n what factors efine gravitation that is meant to ow can you fin efine mechanic thy fossil fuels then a body is Answer briefine stress and efine Hooke's efine Fahrenhe efine specific to ive two uses of efine consequence efine thermal of the two uses of t	the orbital spee and field strengt by power? Write of the efficiency cal energy.  are called non-resaid to be in equity any Five part orbital energy and strain.  Law and write it ent scale and Kendert capacity and fooding effect the of thermal Experience of thermal Experience of the energy and of conductivity and of conductors are distributed as a series of the energy and the energy.	d of a satellite of the down it S.I. unit of a system?  renewable form uilibrium?  arts from the form	of energy?  collowings:- 5x  collowings:- 5x  con.  cors.	الم يحيز الم الم الم الله الله الله الله الله ال	الرک اور کیل میں قرآن واقع کیا۔  الری الحری نے اللہ کی طاقت کی آفریف کے اللہ کی طاقت کی آفریف کے اللہ کی طاقت کی آفریف کی اللہ کی الله کی
n what factors efine gravitation that is meant to ow can you fin efine mechanic thy fossil fuels then a body is Answer briefine stress and efine Hooke's efine Fahrenhe efine specific to ive two uses of efine consequence efine thermal of the two uses of o	the orbital spee and field strengt by power? Write of the efficiency cal energy.  are called non-resaid to be in equity any Five production.  Law and write it ent scale and Kendert capacity and fooding effect besof thermal Expansion of conductors and the conductivity and the conductivity and the conductivity and the conductivity and the conductors are conductivity and the conductivity and the conductors are conductors are conductors are conductivity and the conductors are conductors.	d of a satellite of the down it S.I. unit of a system?  renewable form uilibrium?  arts from the form	of energy?  collowings:- 5x  collowings:- 5x  con.  cors.	الم يحيد ال	ال ک اور کیل عیل قرآن واقع کیا ہے۔  ال یوال ایشنیل نیلڈ کی طاقت کی تعریف کیا ہے۔  ال یوال ایشنیل نیلڈ کی طاقت کی تعریف کیا ہے۔  ال یوال کیا کو افر تی کی تا قابل تجدید کیا ہوتا ۔  ال یوال کو کو افر تی کی تا قابل تجدید کیا ہوتا ۔  ال یوال کو کو افر تی کی تا قابل تجدید کیا ہوتا ۔  ال یوال کو کو افر تی کی تعریف کیے اور الا کیا اور کیوں سکیل کی تعریف کیے اور الا کیا ہوتا ۔  الموال کو کو کو کی تعریف کیے اور الا کیا ہوتا ۔  الموال کو کو کو کی تعریف کی تعریف کر کیا ہوتا ۔  الموال کو کو کو کی تعریف کی تعریف کر کیا ہوتا ۔  الموال کو کو کو کی تعریف کر کیا ہوتا ۔  الموال کو کو کو کی تعریف کر کیا ہوتا ۔  الموال کو کو کو کی تعریف کر کیا ہوتا ۔  الموال کو کو کو کی تعریف کر کیا اور الا کیا ہوتا ۔  الموال کو کو کو کی تعریف کر کیا ہوتا ۔  الموال کو کو کو کی تعریف کر کیا ہوتا ۔  الموال کو کو کو کی کو
n what factors efine gravitation what is meant to ow can you find the fine mechanically fossil fuels. Answer bries and efine stress and efine Hooke's efine Fahrenher efine specific later the following the following forms the f	the orbital spee and field strengt by power? Write of the efficiency cal energy.  are called non-resaid to be in equal of strain.  Law and write it exit scale and Kendeat capacity and fooding effect besof thermal Expansion of conductivity and of conductivity and of conductivity and of conductors are called non-response to the fooding effect besof thermal Expansion of the fooding effect besof thermal Expansion of motion which will be a second the fooding effect between the food food food food food food food foo	d of a satellite of the down it S.I. unit of a system?  renewable form uilibrium?  arts from the form the form the sequation.  Ivin scale of the sequation and write it is equation and write it is equation of the sequation of the sequential of the sequentia	of energy?  collowings:- 5x  collowings:- 5x  con.  cors.	الم يحيد ال	الری اور کیل میں قرآن واقع کیے۔  الری افغیل کے دین کے کروگرو اُن کُری  الری کے افغیل اللہ کی طاقت کی تعریف کیا ہے۔  الری سلم کی ابنی طبیعی آپ کیے معلق میں کہا ہے کہا ہے۔  افغیل کی تعریف کی تعریف کیے ۔  افغیل کی تعریف کی تعریف کیے ۔  افغیل کی تعریف کی تعر
n what factors efine gravitation that is meant to ow can you fine efine mechanic thy fossil fuels then a body is  Answer briefine stress and efine Hooke's efine Fahrenher efine specific to ive two uses of efine consequence efine thermal of the two uses of efine thermal of the Attempt and erive third equal express the follous to the second law and the perpendiculating an angle ate the law of gravitation	the orbital speed and field strength by power? Write do the efficiency call energy.  are called non-resaid to be in equify any Five part and write it exit scale and Kendeat capacity and fooling effect the of thermal Expansion of the conductivity and of conductivity and conducti	d of a satellite of the down it S.I. unit of a system?  renewable form uilibrium?  arts from the form the form the form the its equation.  It write its equation write it is equation to the help of grant the form the for	of energy?  ollowings:- 5x  ollowings:- 5x  ollowings:- 5x  anit.  example.  on.  ors. (2)-3  7x3=21  raph 4  3  (i) 50  na 4  0 N 3 ***  4	الم المحتاج ا	ال ک اور کیل میں قرآن واقع کیا۔  کو سیلا سے کا دین کے کرو گروش کو ایس کے کرو گروش کو ایس کے کہ اور
n what factors efine gravitation what is meant to ow can you find the fine mechanically fossil fuels when a body is a hower briefine stress and efine thooke's efine Fahrenher efine specific live two uses of the consequence of the following and the perpendicular weighing 12 K and the perpendicular weighing 12 K and the perpendicular weighing 12 K and the law of gravitation and the perpendicular weighing 12 K and the law of gravitation and the perpendicular weighing 12 K and the law of gravitation and th	the orbital speed and field strength by power? Write of the efficiency cal energy.  are called non-resaid to be in equal to be	d of a satellite of the down it S.I. unit of a system?  renewable form uilibrium?  arts from the form the form the form the its equation.  It write its equation write it is equation to fa force of 5 axis.  Is equation.	of energy?  ollowings:- 5x  ollowings:- 5x  ollowings:- 5x  anit.  example.  on.  ors. (2)-3  7x3=21  raph 4  3  (i) 50  na 4  0 N 3 ***  4	الم كون كها جاتا مي الم كون كها جاتا مي الم كون كها جاتا مي الم كون	ال ک اور کیل میں قرآن واقع کیا۔  کو سیلا سے کا دین کے کرو گروش کو ایس کے کرو گروش کو ایس کے کہ اور
n what factors efine gravitation what is meant to ow can you find the perpendicular and the perpendicular weighing an angle ate the law of gravitation of the perpendicular weighing 12 Kingy.  In what is meant be perpendicular weighing 12 Kingy.  In what is meant be perpendicular weighing 12 Kingy.  In what is meant be perpendicular weighing 12 Kingy.  In what is meant be perpendicular weighing 12 Kingy.  In what is meant be perpendicular weighing 12 Kingy.  In what is meant be perpendicular weighing 12 Kingy.  In what is meant be perpendicular weighing 12 Kingy.  In what is meant be perpendicular weighing 12 Kingy.  In what is meant be perpendicular weighing 12 Kingy.  In what is meant be perpendicular weighing 12 Kingy.  In what is meant be perpendicular weighing 12 Kingy.	the orbital speed and field strength of the efficiency of an earlied non-residual to be in equally any Five part and write it and strain.  Law and write it are cooling effect on the end capacity and of conductivity and of conductivity and of conductors are conductivity and conductors are conductors.	d of a satellite of h. down it S.I. unit of a system?  renewable form uilibrium?  arts from the form t	of energy?  ollowings:- 5x  ollowings:- 5x  anit.  example.  on.  ors. (2)-3  7x3=21  raph 4  3  (i) 50  na 4  on 3  vii) 50  4  etic 3  j.	الم المحتاج ا	الرک اور کیل میں قرآن واقع کیا ہے۔  الری الله الله کا مافت کی توریف کرو گردش کرو الله کیا ہے۔  الری الله الله کی مافت کی توریف کرو الله کیا ہے کہ الله کی الله کی مافت کی توریف کیے ہے۔  المی سلم کی ایفی طبیعی آپ کیے معلم الله کیا ہے کہ الله کی الله کیا ہے کہ الله کیا ہے کہ کہ کا الله کیا ہے کہ کہ کہ کہ کا الله کیا ہے کہ
n what factors efine gravitation what is meant to ow can you find the perpendicular and the perpendicular weighing an angle ate the law of gravitation what is meant to the perpendicular weighing 12 K thereto.	the orbital speed and field strength by power? Write of the efficiency call energy.  are called non-resaid to be in equality and strain.  Law and write it exit scale and Kendert capacity and fooling effect the of the field set of the mal Expansion of the mal expansion of the equality and the energy and th	down it S.I. unit of a system? renewable form uilibrium? arts from the form sequation. Ivin scale by evaporation. Insion and write it is write its equation and Non-conduct  II  II  II  II  II  II  II  II  II	of energy?  collowings:- 5x  collowings:- 5x  con.  con.  cons.  con.  cons.  con.	المن المن المن المن المن المن المن المن	الرک اور کیل میں قرآن واقع کیا ہے۔  الر یوی الیشن فیلڈ کی طاحت کی آخرین کے الر اسے کیا مراد ہے؟ اس کا ۱۰ کی ہو اسے کے معلقہ اللہ کیا مراد ہے؟ اس کا ۱۰ کی ہو اسے کیے معلقہ اللہ کیا ہو گئے ہو
n what factors efine gravitation what is meant to ow can you find the fine mechanical when a body is a car weighing 12 K mergy.  In what is meant be not be the law of gravitation and the perpendicular weighing 12 K mergy.  In a the matical expression of the law of gravitation and the perpendicular weighing 12 K mergy.  In a the matical expression of the law of gravitation and the perpendicular weighing 12 K mergy.  In a the matical expression of the law of gravitation and the	the orbital speed and field strength by power? Write of the efficiency cal energy.  are called non-resaid to be in equity any Five point strain.  Law and write it exit scale and Kendeat capacity and fooling effect cas of thermal Expansion of the entered conductivity and conduct	down it S.I. unit down it S.I. unit of a system?  renewable form uilibrium? arts from the form ivin scale by evaporation. ansion and write it is write its equation and Non-conduct  II as. ith the help of grant of a force of 5 axis. Is equation.	of energy?  collowings:- 5x  collowings:	بن کیم کے جی کا اور کا کہا جا تا ہے کہا کہ کا اور ساوات افغہ کی کا داویہ بنا رائی کے اور ساوات افغہ کی کا داویہ بنا رائی کے اور ساوات افغہ کی کا داویہ بنا رائی کے اور ساوات افغہ کی کے اور ساوات افغہ کی کے اور ساوات افغہ کی کا داویہ بنا رائی کے اور ساوات افغہ کی کا داویہ بنا رائی کے کہا کہ کہا کہا	الرک اور کیل میں آب فواقع کے بیانے۔  الری الله الله الله الله الله الله الله الل
n what factors efine gravitation that is meant to ow can you fin efine mechanic thy fossil fuels then a body is  Answer brief efine stress and efine Hooke's efine Fahrenhe efine specific to ive two uses of efine consequence efine thermal of the two uses of efine thermal of the Attempt and erive third equal express the follo 5000 g (ii) 2: ate second laws and the perpendiculate the law of gravitation aking an angle ate the law of gravitation car weighing 12 K erryy.  That is meant by eathematical express the second laws and the perpendiculate the law of gravitation that is meant by eathematical expression that is meant by	the orbital speed and field strength by power? Write and the efficiency call energy.  are called non-resaid to be in equify any. Five paid strain.  Law and write it ent scale and Kendeat capacity and fooding effect the of thermal Expansion of the motion where the energy and t	down it S.I. unit of a system? enewable form uilibrium? arts from the form livin scale by evaporation. ansion and write it is write its equation of Non-conduct  II is. ith the help of grant of a force of 5 axis. Is equation. Is equation. Is equation. It is equation is equation. It is equation is equation. It is equation is equation. It is equation.	of energy?  collowings:- 5x  collowings:- 6x  collowings:	الم المن المن المن المن المن المن المن ا	ال ک اور کیل میل فران واقع کی تیجید الله کا
n what factors efine gravitation that is meant to ow can you fine efine mechanic thy fossil fuels then a body is  Answer brie efine stress and efine Hooke's efine Fahrenhe efine specific live two uses of efine consequence efine thermal of the Attempt and erive third equal erive thi	the orbital speed and field strength by power? Write and the efficiency call energy.  are called non-resolution of said to be in equity and strain.  Law and write it ent scale and Kendeat capacity and fooding effect the of the mal Experimental Experime	down it S.I. unit of a system? renewable form uilibrium? arts from the form it write its equation. It write its equation ansion and write it is write its equation and Non-conduct ind Non-conduct II is. ith the help of give equation F = in it of a force of 5 axis. Is equation. It is equ	of energy?  collowings:- 5x  collowings:- 6x  collowings:	الم	الر الوريك المن الراق والتي التي التي التي التي التي التي التي
n what factors efine gravitation that is meant to ow can you fine efine mechanic thy fossil fuels then a body is  Answer brie efine stress and efine Hooke's efine Fahrenhe efine specific to ive two uses of efine thermal of the two uses of efine thermal of the Attempt and erive third equal efine thermal of the second law and the perpendicular aking an angle ate the law of grav car weighing 12 K thereby. That is meant by	the orbital speed on al field strength by power? Write of the efficiency call energy.  are called non-resaid to be in equify any Five point strain.  Law and write it ent scale and Kendeat capacity and fooding effect the of the field strain and proved it is a speed of 20 my Young's Modular pression and write it is a speed of 20 my Young's Modular pression and wri	down it Sit. unit of a system? renewable form uilibrium? arts from the form sequation. Ivin scale by evaporation. Insion and write it is write its equation and Non-conduct II is. ith the help of give equation F = in it of a force of 5 axis. Is equation. Its equation II is. Its equation II	of energy?  collowings:- $5x$ collowings:- $5x$ con.  ors. $(2)$ raph 4  3  (i) 50  ha 4  etic 3  fy  be 3 $(7)$ fy $(1)$ $(2)$ $(2)$ $(3)$ $(3)$ $(4)$	الم	الرك اور يك يلى الرك وال التي يليد المن الماك المن المن المن المن المن المن المن المن
n what factors efine gravitation that is meant to ow can you fine efine mechanic thy fossil fuels then a body is  Answer brie efine stress and efine Hooke's efine Fahrenhe efine specific to ive two uses of efine consequence efine thermal of the Attempt and erive third equal express the follo 5000 g (ii) 2: ate second laws and the perpendiculate he law of grav car weighing 12 K ergy.  That is meant by	the orbital speed and field strength by power? Write of the efficiency call energy.  are called non-taked to be in equally any. Five production of the efficiency of scale and Kendert capacity and of cooling effect the of the energy of the e	d of a satellite of a system?  The down it S.I. unit of a system?  The enewable form utilibrium?  The enewable form the form of a system?  It is equation.  It is equation is equation.  It is a force of 5 axis.  It is equation.	of energy?  collowings:- 5x  collowings:	الم	الر الوريك المن الراق والتي التي التي التي التي التي التي التي
n what factors efine gravitation that is meant to ow can you fine efine mechanic thy fossil fuels then a body is  Answer brie efine stress and efine Hooke's efine Fahrenhe efine specific to ive two uses of efine consequence efine thermal of the Attempt and erive third equal express the follo 5000 g (ii) 2: ate second laws and the perpendiculate he law of grav car weighing 12 K ergy.  That is meant by	the orbital speed and field strength by power? Write of the efficiency call energy.  are called non-resaid to be in equality and strain.  Law and write it ent scale and Kendeat capacity and fooling effect the of the field search of the field sear	d of a satellite of a system?  The down it S.I. unit of a system?  The enewable form utilibrium?  The enewable form the form of a system?  It is equation.  It is equation is equation.  It is a force of 5 axis.  It is equation.	of energy?  collowings:- $5x$ of energy?  collowings:- $5x$ of energy?  of	الم	الرك اور يك يلى الرك وال التي يليد المن الماك المن المن المن المن المن المن المن المن
n what factors efine gravitation what is meant to wow can you fine efine mechanically fossil fuels where there is a second law to the perpendicular to the law of gravitation and the perpendicular weighing 12 Kinergy.  The second law in the law of gravitation and the perpendicular weighing 12 Kinergy.  That is meant by the hathematical expression of the law of gravitation and the acceleration of the acce	the orbital speed and field strength of the efficiency call energy.  are called non-resolution and write it set scale and Kernet capacity and fooding effect the of the field strain.  Law and write it set scale and Kernet capacity and fooding effect the of the field strain and of conductivity and for conductivity and food food food food food food food fo	down it S.I. unit of a system? renewable form uilibrium? renewable for	of energy?  collowings:- $5x$ of energy?  collowings:- $5x$ of energy?  collowings:- $5x$ of energy?  of energ	الم	الرك اور يك يلى الرك وال التي يليد المن الماك المن المن المن المن المن المن المن المن
n what factors efine gravitation what is meant to ow can you fine the stress and efine stress and efine Hooke's efine Fahrenhe efine specific live two uses of efine consequence efine thermal of the perpendicular weighing 12 Kingy.  The stress the follow of gravitation weighing 12 Kingy.  That is meant by the stress rod is 1 of the acceleration of tinear and the acceleration of the ac	the orbital speed and field strength of the efficiency call energy.  are called non-resolution and write it set scale and Kernet capacity and fooding effect the of the field strain.  Law and write it set scale and Kernet capacity and fooding effect the of the field strain and of conductivity and for conductivity and food food food food food food food fo	down it S.I. unit of a system?  renewable form uilibrium? arts from the form sequation. Ivin scale by evaporation. ansion and write it is write its equation and Non-conduct and Non-conduct and Non-conduct and Non-conduct and Find its equation arise for a force of 5 axis. Ith the help of graph is in a force of 5 axis. Is equation. If a force of 5 axis. Is equation. It is its its its its its its its its ound to calculate its densition and write its use in an and write its use in an	of energy?  collowings:- $5x$	الم	الرك اور يك يلى الرك وال التي يليد المن الماك المن المن المن المن المن المن المن المن
n what factors efine gravitation what is meant to ow can you find the perpendicular of the perpendicular of the law of gravitation of the perpendicular of the law of gravitation of the perpendicular	the orbital spee on al field strength on al field strength on power? Write of the efficiency cal energy.  are called non-reside to be in equify any Five point of strain.  Law and write it ent scale and Kender capacity and for cooling effect the of thermal Experimental Experimen	down it S.I. unit of a system? enewable form uilibrium? arts from the form uilibrium? arts from the form uilibrium? arts from the form sequation. Ivin scale by evaporation. Inside its equation and Non-conduct and Non-condu	of energy?  of ene	الم المنافعة المنافع	الراک اور پل شن و کو او ای کی بیتی از ال کار گرفت کو ایستان کار اور گرفت کو ایستان کار گرفت کو کرد
n what factors efine gravitation what is meant to ow can you fine efine mechanically fossil fuels. Answer briefine stress and efine stress and efine Hooke's efine Fahrenher efine specifically ive two uses of efine consequence efine thermal of the consequence efine thermal of the perpendicular weighing an angle ate the law of gravitation of the perpendicular weighing 12 Kmergy. What is meant by the athematical expression of the perpendicular weighing 12 Kmergy. What is meant by the athematical expression of the acceleration of the accelerati	the orbital speed and field strength of power? Write of the efficiency call energy.  are called non-reside to be in equity any Five production.  Law and write it ent scale and Kender capacity and fooding effect the office of the mal Experimental entergraphs of the fooding effect the office office of the mal experimental entergraphs of the fooding effect the office	d of a satellite of a system?  renewable form utilibrium?  arts from the form the fo	of energy?  of ene	الم	الرك اور يك عن قرال والتي المجتال المن المن المن المن المن المن المن ال
n what factors efine gravitation what is meant to ow can you fine efine mechanically fossil fuels. Answer briefine stress and efine stress and efine Hooke's efine Fahrenher efine specifically ive two uses of efine consequence efine thermal of the consequence efine thermal of the perpendicular weighing an angle ate the law of gravitation of the perpendicular weighing 12 Kmergy. What is meant by the athematical expression of the perpendicular weighing 12 Kmergy. What is meant by the athematical expression of the acceleration of the accelerati	the orbital speed and field strength by power? Write of the efficiency call energy.  are called non-said to be in equality and strain.  Law and write it ent scale and Kender capacity and focoling effect the of the mal Experimental Experime	d of a satellite of a system?  The system?  The sequation of a sequation of a sequation of a system of a system of a system of a sequation of a system of a system of a sort of a system o	of energy?  collowings:- 5x  collowings:	الم المواحد المحافظ ا	الرا اور پی بین قرار والی می افزان ال
n what factors efine gravitation what is meant to ow can you fine efine mechanically fossil fuels. Answer briefine stress and efine stress and efine Hooke's efine Fahrenher efine specifically ive two uses of efine consequence efine thermal of the consequence efine thermal of the perpendicular weighing an angle ate the law of gravitation of the perpendicular weighing 12 Kmergy. What is meant by the athematical expression of the perpendicular weighing 12 Kmergy. What is meant by the athematical expression of the acceleration of the accelerati	the orbital speed and field strength of power? Write of the efficiency call energy.  are called non-reside to be in equity any Five production.  Law and write it ent scale and Kender capacity and fooding effect the office of the mal Experimental entergraphs of the fooding effect the office office of the mal experimental entergraphs of the fooding effect the office	d of a satellite of a system?  Itenewable form utilibrium?  Interest from the form t	of energy?  collowings:- 5x  collowings:	الم	الر اور پی ایم تری و ال ایم تری ال